



سوال

(75) دوران وضو کون سی مسنون دعائیں پڑھیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا دوران وضو اعضاء دھوتے ہوئے دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ (ابوالنہشہ، لاہور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صحیح احادیث سے وضو کی ابتداء میں بسم اللہ اور آخر میں اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَتَّظِرِيْنَ ثابت ہے۔

دوران وضو ایک ایک عضو کے دھونے پر جو لوگ مختلف کلمات پڑھتے ہیں ان کا ثبوت کسی معتبر صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

تفہیم دین

کتاب الوضوء، صفحہ: 115

محدث فتویٰ